

16 نومبر 2018

ریٹرنس یونیورسٹی کا جی ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن، برامپٹن میں اپنے کورسز پیش کرنے جا رہا ہے

برامپٹن، آن – آج، سٹی آف برامپٹن اور ریٹرنس یونیورسٹی ایک بڑے تعلیمی پراجیکٹ کی صورت میں ایک نئے سنگ میل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جو اس شہر کو بدل کر رکھ دے گا۔

ریٹرنس یونیورسٹی کا جی ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن (G. Raymond Chang School of Continuing Education) سے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں باضابطہ طور پر اپنے کورسز پیش کرنے جا رہا ہے۔

میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "سٹی آف برامپٹن کی ریٹرنس کے ساتھ شراکت داری میں یہ آگے بڑھنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "میں چینگ سکول اور اس کی وجہ سے آنے والے سیکھنے اور جدت کے بڑے مواقع کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ ایک ساتھ مل کر، سٹی آف برامپٹن اور ریٹرنس ہمارے شہر میں تعلیم کا چہرہ بدل کر رکھ دیں گے۔"

کمپیوٹر سیکورٹی اور ڈیجیٹل فورینزکس کے سرٹیفیکیٹ کے ذریعے سائبر سیکورٹی میں پہلے کورسز 14 جنوری 2019 سے شروع ہو رہے ہیں اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں پیر اور جمعرات کی شام کو جارج اسٹریٹ پر ویسٹ ٹاور میں چلیں گے۔ اسکول کی انتظامیہ سوالات کے جوابات دینے اور پروگرام کے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے بروز ہفتہ، 17 نومبر کو سٹی ہال آٹریم میں موجود ہو گی۔

یہ کورس کمپیوٹر نیٹ ورک سیکورٹی (CKDF 110) اور سیکورٹی آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن (CKDF 140) ہیں۔

کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر، نے کہا کہ "سائبر سیکورٹی برامپٹن اور پوری دنیا میں کئی کاروباروں کے لیے اولین ترجیح ہوتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "چینگ سکول کے پروگرام اور ڈاؤن ٹاؤن کے لیے مستقبل کے منصوبے زیر طلب نوکریوں کے لیے پیشہ ورانہ مہارتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے انتہائی متنوع اور باصلاحیت رہائشیوں کے لیے زبردست مواقع پیش کرتے ہیں۔"

چینگ سکول تعلیم اور پوری زندگی کے دوران سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم رہتے ہوئے بالغان کی تعلیم کے لیے متعلقہ، معیاری تعلیمی پروگرام بھی فراہم کر رہا ہے۔

جی ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن ایجوکیشن کی ڈین، ڈاکٹر میری بوٹروگیانی (Marie Bountrogianni) نے کہا کہ "ہم برامپٹن کی کمیونٹی کے لیے اور سائبر سیکورٹی میں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے کے کارکنان کی اگلی لہر تیار کرنے کے لیے ان انتہائی اہم کورسز کو برامپٹن میں پیش کرنے کے لیے انتہائی پر امید ہیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "برامپٹن کے نوجوان اور متنوع صلاحیتوں کے سمندر کے لیے خصوصی بنیادوں پر سیکھنے کے مواقع پیدا کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، تاکہ ہم مہارتوں اور علم کے درمیان خلاء کو کم کر سکیں، جو اس ابھرتے ہوئے شعبے میں اس وقت موجود ہے۔"

جب سے صوبے نے مارخم، ملٹن اور برامپٹن میں یونیورسٹی کے پراجیکٹس کے لیے فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے، سٹی نے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ان کے وجود کو قائم کرنے کے لیے ریٹرنس یونیورسٹی اور شیرپٹن کالج کے ساتھ کئی پیش اقدام اور انتخابات پر مل کر کام کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ منصوبہ شدہ ڈاؤن ٹاؤن انوویشن ہب، لائبریری اور سائبر سیکورٹی کے خصوصی اداروں کے لیے سٹی کی جانب سے فنڈنگ برقرار ہے، جبکہ مجموعی پروجیکٹ کے ان عناصر کے لیے ریٹرنس اور شیرپٹن کالج، دونوں کے ساتھ شراکت داری میں منصوبہ بندی جاری ہے۔

ریٹرنس یونیورسٹی کا جی ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن کا برامپٹن میں فعال ہونا اس عمل میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ برامپٹن 2019 میں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک نیا بزنس انکوبیٹر کھولنے کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ریٹرنس یونیورسٹی نے اس اقدام کے لیے اپنی حمایت ظاہر کی ہے اور اس کے ساتھ انٹریپرنیوز کی تیاری اور جدت میں اپنی قائدانہ مہارتوں کو

شامل کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ ریٹرسن کے DMZ کو حالیہ طور پر دنیا کے پہلے نمبر کے سب سے اچھے یونیورسٹی پر مبنی انکیوبیٹر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔

دلچسپی رکھنے والے طلباء برامپٹن میں چیننگ سکول کے پہلے کورسز کے لیے یہاں پر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور رجسٹر کر سکتے ہیں: <https://ce-online.rverson.ca>

برامپٹن کے یونیورسٹی پروجیکٹ کے متعلق مزید معلومات یہاں پر دستیاب ہے: www.brampton.ca/university

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca